



## آسٹریلیا میں داخل ہونا اور روانہ ہونا

تازہ ترین اپ ڈیٹ

مورخہ 6 جولائی 2022 سے، آسٹریلیا آنے اور یہاں سے جانے کے لیے سفر کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ تمام مسافروں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ:

- آسٹریلیا میں داخل ہونے والے لوگوں کو ویکسینیشن کے اسٹیٹس کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے
- آسٹریلیا میں داخل ہونے والے افراد کو مسافروں کا ڈیجیٹل ڈیکلیریشن یا بحریہ ٹریول ڈیکلیریشن پُر کرنے کی ضرورت نہیں ہے
- آسٹریلیا سے روانہ ہونے والے لوگوں کو ویکسینیشن کے اسٹیٹس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا
- غیر ویکسین شدہ ویزا حاملین کو آسٹریلیا کا سفر کرنے کے لیے کسی سفری اسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے
- آسٹریلیا جانے والی پروازوں میں ابھی بھی ماسک لازمی ہے۔

یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ جملہ ایئر لائنز، سمندری جہاز کے آپریٹرز اور دیگر ممالک کے اپنے مخصوص تقاضے ہو سکتے ہیں جن کی تعمیل کرنا مسافروں کے لیے ضروری ہوگا۔

## آسٹریلیا میں داخل ہونا اور روانہ ہونا

محکمہ داخلہ اور آسٹریلیائی بارڈر فورس آسٹریلیا میں داخل ہونے یا یہاں سے روانہ ہونے کے خواہاں لوگوں کے لیے مشورے فراہم کرتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں:

- [آسٹریلیا میں داخل ہونا](#)
- [آسٹریلیا سے روانہ ہونے سے پہلے اور بعد میں](#)
- [سرحد پار کرنا](#)
- [سفری دستاویزات](#)

جن لوگوں کے لیے ویزا ہونا ضروری ہے انہیں آسٹریلیا کا سفر کرنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے کہ انہیں ویزا جاری کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا کے ویزا کے تقاضے چیک کرنے کے لیے، ملاحظہ کریں: [ویزا کے اختیارات دریافت کریں](#)

آسٹریلیائی بارڈر فورس [سمندر کے راستے آسٹریلیا میں داخل ہونے یا روانہ ہونے](#) والے لوگوں کے لیے مزید مشورے فراہم کرتی ہے۔

بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھنے والے آسٹریلیائی شہریوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ [Smartraveller](#) پر جاکر سفر سے متعلق موجودہ مشورے چیک کریں۔

محکمہ صحت [بین الاقوامی سفر اور COVID-19](#) پر صحت سے متعلق مشورے فراہم کرتا ہے۔

## ریاستی اور علاقائی معلومات

آسٹریلیا کی ہر ریاست اور علاقے کے اپنے تقاضے ہیں جن کی تعمیل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ آسٹریلیا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو اُس ریاست یا علاقے کے تقاضے چیک کر لینے چاہیے جہاں کا آپ سفر کر رہے ہیں۔ ان تقاضوں میں آپ کے آسٹریلیا پہنچنے کے بعد COVID-19 کا ٹیسٹ کرانا یا بعض مخصوص مقامات پر جانے یا بعض مخصوص پیشوں میں کام کرنے کے لیے ویکسین لگوانے کے تقاضے شامل ہو سکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں [ریاستی اور علاقائی معلومات](#)۔

## آسٹریلیا کا ویکسینیشن پروگرام

آسٹریلیا میں رہنے والا ہر شخص COVID-19 کی ویکسین مفت حاصل کر سکتا ہے۔ آسٹریلیا پہنچنے والے بین الاقوامی مسافروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آسٹریلیا کے COVID-19 ویکسینیشن پروگرام تک رسائی حاصل کریں۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں [COVID-19 ویکسینز](#)۔

## ویزا کی رعایتیں اور ریفرنڈز

COVID-19 کی عالمی وباء کے جملہ اثرات کی وجہ سے، ویزا کے کچھ زمروں میں بہت سی تبدیلیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن میں رعایتوں کی مدت، فیس معافی اور ویزا ریفرنڈز کو متعارف کرانا شامل ہیں۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں [COVID-19 ویزا کی معلومات](#)۔